

روزے میں کریم یا منجن کے ساتھ ٹوٹھ برش استعمال کرنا کونسا مکروہ ہے
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں
کہ روزے کے دوران ٹوٹھ برش کرنے کا کیا حکم ہے۔ ایک فتوی میں لکھا ہے کہ
یہ مکروہ ہے تو اگر یہ مکروہ ہے تو کونسا مکروہ ہے مکروہ تنزیہی یا مکروہ
تحریمی؟

سائل: ایک بھائی فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بعون الملك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

روزے کے دوران دانتوں پر کریم یا منجن کے بغیر خالی برش کرنا بلا کراہت جائز
ہے اور کریم کے ساتھ بھی برش ناجائز نہیں جب یہ یقین ہو کہ برش پر لگائی
جائے والی کریم یا منجن کا کوئی جز حلق سے نیچے نہیں اترے گا مگر بلا
ضرورت کریم یا منجن لگا کر ٹوٹھ برش کرنا مکروہ ہے کیونکہ کریم یا منجن ذائقہ
دار ہوتے ہیں اور روزے میں بلا ضرورت کسی چیز کو چکھنا مکروہ ہے اور
یہ مکروہ تنزیہی ہے جیسا کہ درمختار میں ہے "وَكُرْهَ لَهُ ذُوقُ شَيْءٍ وَكَذَا مَضْغُهُ
بِلَا عُذْرٍ"

(الدرالمختار) و رالمحتر کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما
لایفسدہ، ج ۳، ص ۴۰۳)

اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فتاویٰ رضویہ
میں فرماتے ہیں کہ اور منجن (ٹوٹھ برش پر لگایا جائے والا پاؤڈر) ناجائز و حرام
نہیں بلکہ اطمینان کافی ہو کہ اس کا کوئی جزو حلق میں نہ جائے گا، مگر بے
ضرورت صحیحہ کراہت ضرور ہے

(فتاویٰ رضویہ ج 10 ص 551)

اور علامہ شامی درمختار کے لفظ "کُرْهَ" کی شرح کرتے ہوئے رالمحتر میں
لکھتے ہیں کہ "الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَنْزِيهِيَّةٌ" ظاہر یہی ہے کہ ان
اشیاء میں کراہت تنزیہی ہے۔

(الدرالمختار) و رالمحتر کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما
لایفسدہ، ج ۳، ص ۴۰۳)

لیکن کریم کے ساتھ ٹوٹھ برش نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس میں اندیشہ
ہے کہ اس کا کوئی جز حلق سے نیچے اتر جائے گا۔ اگر کریم کی جھاگ یا اس کا
کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

والله تعالى اعلم و رسوله اعلم صلی الله علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari'ah say regarding the following matter, what is the ruling on brushing the teeth whilst fasting; in one fatwā it is stated that this is makrūh (disliked), if it is makrūh then what type of makrūh is it; makrūh tanzeehī (slightly disliked) or makrūh tahreemī (prohibitively disliked)?

Questioner: A brother from England

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنَانِ الْمُلْكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هَدِيَّةُ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

To brush the teeth without using toothpaste or tooth powder, whilst fasting, is permissible without any dislike. The use of toothpaste whilst brushing is not impermissible so long as there is certainty that no portion of the toothpaste or powder that is applied to the toothbrush will travel below the throat. However, the unnecessary use of toothpaste or powder whilst brushing is makrūh because toothpaste and tooth powder have a distinctive taste, and to taste something without reason is makrūh whilst fasting; and this means makrūh tanzeehī, just as it is stated in al-Durr al-Mukhtār:

وَكُرْهَةُ لَهُ تَنْزِهُ شَيْءٌ وَكَذَا مَضْنُعَةُ بِلَا عُذْرٍ

[al-Durr al-Mukhtār wa Radd al-Muhtār, Kitāb al-Sawm, Bāb mā Yufsid al-Sawm wa mā lā Yufsiduh, Volume 3, pg 253]

Also, Sayyidī Imām Ahmad Razā Khān (may Allāh's Mercy be upon him) states in Fatāwā Ridawiyyah:

"The use of tooth powder is not harām nor impermissible if he is convinced that any portion of it will not reach the throat, however, if there is no valid reason then there is definite dislike (karaahat)" [Fatāwā Razawiyyah, Volume 10, pg 551]

Furthermore, in Radd al-Muhtār, 'Allāmah Shāmī explains the word "disliked (kuriha)" from al-Durr al-Mukhtār as follows:

"And it is apparent that the dislike in these matters is tanzeehī (minor/slight)"

[al-Durr al-Mukhtār wa Radd al-Muhtār, Kitāb al-Sawm, Bāb mā Yufsid al-Sawm wa mā lā Yufsiduh, Volume 3, pg 253]

However, it is better that toothpaste not be used when brushing, as there is a risk that a portion of it may go below the throat. If any portion of the toothpaste or its foam descends below the throat, the fast will become void.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كَتَبَهُ أَبُو الْحَسْنِ مُحَمَّدُ قَاسِمُ ضِيَاءُ قَادِرِي

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī

Translated by Zameer Ahmed